

Urdu Ai

LEARN ENGLISH WITH AI · EXTENDED EDITION

اے آئی کے ساتھ انگریزی بولنا سیکھیے

بغیر استاد، بغیر فیس، بغیر جھجک —
مصنوعی ذہانت کو اپنا ذاتی انگریزی ٹیچر بنانے کا مکمل عملی نصاب

Hello! My name is Ahmed.
I am learning English.

Great job! Let's practice
one more time...



سنہ تکمیل کے ساتھ

60

دن کا قابل پرنٹ ٹریکر

23

تیار پرامپٹ کارڈ

آسان اردو میں مصنوعی ذہانت کو سمجھنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم

جون ۲۰۲۶ | توسیعی ایڈیشن | بالکل ابتدائی سیکھنے والوں کے لیے

اردو اے آئی کیا ہے؟

دوستو!
السلام و علیکم۔

اردو اے آئی ایک سادہ سے احساس سے شروع ہوا: دنیا مصنوعی ذہانت سے بدل رہی ہے، مگر اس انقلاب کی تقریباً ساری تعلیم انگریزی میں ہے۔ ہمیں یہ بات قبول نہیں تھی کہ کروڑوں اردو بولنے والے صرف زبان کی دیوار کی وجہ سے چھپے رہ جائیں۔ ہم نے یہ پلیٹ فارم اسی دیوار کو گرانے کے لیے بنایا، اور ہمارا مقصد ایک جملے میں سمٹ آتا ہے: آسان اردو میں مصنوعی ذہانت کو سمجھنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم۔

یہ کتاب اسی مشن کا حصہ ہے۔ انگریزی سیکھنے کے لیے کل تک آپ کو استاد، ایڈمی اور فیس چاہیے تھی؛ آج صرف ایک موبائل اور روزانہ بیس منٹ چاہئیں۔ اے آئی دنیا کا پہلا استاد ہے جو کبھی نہیں تھکتا، کبھی نہیں ہنستا اور کچھ نہیں مانگتا۔ ہم نے اس کتاب میں وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جو آپ کو درکار ہے: ایپس کی پہچان، تیار پرامپٹ کارڈ، روزانہ کا طریقہ، ساٹھ دن کا منصوبہ اور آپ کی ترقی ناپنے کا ٹریکر۔ کچھ خریدنا نہیں پڑے گا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ بس شروع کرنا پڑے گا۔

آپ سے ہماری صرف ایک درخواست ہے: یہ کتاب پڑھیے مت۔ پریکنس کیجئے۔ آج پہلا پرامپٹ بھیجیے، پہلی غلطی کیجیے، پہلی اصلاح لیجیے۔ اور ساٹھ دن بعد اپنے پہلے دن کی ریکارڈنگ سن کر خود فیصلہ کیجیے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچے۔ آپ کی کامیابی کی کہانی ہی اردو اے آئی کا اصل انعام ہے۔ اور وہ کہانی ہمیں ضرور لکھ بھیجیے گا۔

دعاگو،

قیصر رونجھا

بانی، اردو اے آئی · urduai.org

فہرستِ مضامین

4	01	آپ کا نیا استاد: اے آئی سے انگریزی کیوں اور کیسے؟
6	02	اپیس کی پہچان: کہاں دبانا ہے، کیا بولنا ہے
7	03	پہلا دن: استاد کو تیار کرنے کا ماسٹر پرامپٹ
9	04	سیکھنے کا طریقہ: روزانہ میس منٹ کا چکر
11	05	پرامپٹس کی لائبریری: ۲۳ تیار نسخے، چھ زمروں میں
16	06	جملوں کے سانچے: پندرہ فریم جو آدھی گفتگو چلاتے ہیں
17	07	روزمرہ کے میس فقرے: آج سے بولنا شروع کیجیے
18	08	ساٹھ دن کا منصوبہ: صفر سے گفتگو تک
19	09	مفت وسائل اور لنکس: اے آئی سے آگے کی دنیا
20	10	عام غلطیاں اور ان کا علاج
21	11	تسلسل کا راز اور آخری بات
23	ضمیمہ	ساٹھ دن کا قابل پرنٹ ٹریکر، پیش رفت نامہ اور سنڈ تکمیل
29	رابطہ	اردو اے آئی سے جڑے رہیے — سوشل میڈیا اور واٹس ایپ چینل

یہ کتاب کس کے لیے ہے؟

یہ کتاب اُن کے لیے ہے جنہوں نے اسکول میں انگریزی پڑھی مگر بول نہیں سکتے؛ جنہیں انگریزی بولتے ہوئے جھجک آتی ہے؛ جن کے پاس اکیڈمی کی فیس یا وقت نہیں۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک اسمارٹ فون ہے اور دن میں بیس منٹ — تو آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو انگریزی بولنا سیکھنے کے لیے درکار ہے۔ اے آئی آپ کا استاد ہوگا، یہ کتاب آپ کا نصاب۔

ایک نظر میں - اس کتاب کے تین بنیادی اصول

• زبان بولنے سے آتی ہے، رٹنے سے نہیں۔ اس کتاب کی ہر مشق آپ کو بولنے پر مجبور کرے گی - گرامر کے قاعدے خود بخود راستے میں آ جائیں گے۔

• اے آئی دنیا کا واحد استاد ہے جو کبھی نہیں ہنستا۔ ہزار غلطیاں کیجیے، ہزار بار پوچھیے - نہ شرمندگی، نہ تھکن، نہ فیس۔

• تھوڑا مگر روز ہفتے میں ایک گھنٹہ بے ترتیب مشق سے روزانہ بیس منٹ کی پابند مشق کئی گنا بہتر ہے۔

01 آپ کا نیا استاد: اے آئی سے انگریزی کیوں اور کیسے؟

انگریزی نہ بولنے کی سب سے بڑی وجہ علم کی کمی نہیں، مشق کے موقع کی کمی ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جو اے آئی نے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔

پرانی رکاوٹیں، نیا حل

پرانی رکاوٹ	اے آئی کا حل
بولنے کی مشق کے لیے کوئی ساتھی نہیں	چومیس گھنٹے دستیاب گفتگو کا ساتھی۔ جتنی بار چاہیں، جتنی دیر چاہیں
غلطی پر لوگ ہنستے ہیں، جھجک بڑھتی ہے	اے آئی کبھی نہیں ہنستا؛ ہر غلطی پر نرمی سے درست جملہ سکھاتا ہے
ایڈمی کی فیس اور آنے جانے کا وقت	مفت ایپ، گھر بیٹھے۔ لاگت تقریباً صفر
ایک ہی سبق پوری کلاس کے لیے	سبق صرف آپ کے لیے: آپ کی رفتار، آپ کے موضوع، آپ کی غلطیوں کے مطابق
استاد سے بار بار پوچھتے ہوئے شرم	ایک ہی بات سو بار پوچھیے۔ جواب ہر بار اتنے ہی حوصلے سے ملے گا

کون سا ٹول چنیں؟

بولنے کی مشق کے لیے آواز والی گفتگو سب سے قیمتی سہولت ہے۔ جینائی (Gemini Live) اور چیٹ جی پی ٹی (Voice Mode) دونوں کے مفت ورژن میں آواز سے بات چیت موجود ہے۔ آپ بولتے ہیں، اے آئی سنتا ہے اور بول کر جواب دیتا ہے، بالکل حقیقی گفتگو کی طرح۔ لکھنے پڑھنے کی مشق کے لیے کوئی بھی چیٹ بوٹ (کلاڈ، چیٹ جی پی ٹی، جینائی) موزوں ہے۔ ابتدا کے لیے مشورہ: ایک ٹول چنیے اور پہلے تیس دن صرف اسی پر مشق کیجیے۔

∞	0 Rs	20
صبر۔ اے آئی استاد نہ تھکتا ہے، نہ جھنجھلاتا ہے، نہ کسی کو آپ کی غلطیاں بتاتا ہے	فیس۔ جینائی اور چیٹ جی پی ٹی کے مفت ورژن اس پورے نصاب کے لیے کافی ہیں	منٹ روزانہ۔ بس اتنی مشق مستقل کی جائے تو دو مہینے میں بنیادی گفتگو ممکن ہے

بنیادی اصول۔ غلطی دشمن نہیں، استاد ہے جو شخص غلطی کے ڈر سے نہیں بولتا وہ کبھی نہیں سیکھتا؛ جو روز دس غلطیاں کرتا اور درست کرواتا ہے وہ دو مہینے میں بولنے لگتا ہے۔ اے آئی کے ساتھ غلطی کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے کھل کر، بے دھڑک بولیے۔

اپس کی پہچان: کہاں دبانا ہے، کیا بولنا ہے

02


نیچے دونوں بڑی اپس کے خاکے دیے گئے ہیں تاکہ پہلی بار کھولتے ہی آپ کو معلوم ہو کہ کون سا بٹن کس کام کا ہے۔ (خاکے وضاحت کے لیے بنائے گئے ہیں؛ ایپ کا رنگ روپ وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا ہے مگر بٹن یہی رہتے ہیں۔)

جیمنائی (Google Gemini)

- 1 مائیک: دبا کر اردو یا انگریزی میں بولیے۔ لکھنے کی ضرورت نہیں؛ آپ کی بات لکھائی میں بدل جائے گی۔
- 2 جیمنائی لائیو (لہروں والا نشان): اصل غزانہ یہی ہے۔ دبائیے اور آسنے سامنے کی طرح مسلسل گفتگو کیجیے؛ اسے آئی بول کر جواب دے گا، آپ بیچ میں ٹوک بھی سکتے ہیں۔
- 3 لکھنے کی جگہ: ماسٹر پرامپٹ اور تحریری مشقیں یہاں لکھیے یا چسپاں کیجیے۔

ایپ: پلے اسٹور پر «Google Gemini» — بنانے والا ادارہ Google LLC ضرور جانچیے۔ ویب:


gemini.google.com



چیٹ جی پی ٹی وائس موڈ (ChatGPT Voice)

- 4 وائس موڈ کا نشان (لہریں): چیٹ کی سکرین پر یہ نشان دبائیے تو آواز والی گفتگو شروع ہو جائے گی۔
- 5 گفتگو کی سکرین: سفید دائرہ نظر آئے تو بس بولنا شروع کیجیے۔ رکیں گے تو اسے آئی جواب دے گا۔
- 6 نیچے کے بٹن: مائیک کا بٹن آواز عارضی بند کرتا ہے؛ کراس کا بٹن گفتگو ختم کر کے تحریری خلاصہ دکھا دیتا ہے۔ جو دہرائی کے لیے بہت کارآمد ہے۔

ایپ: پلے اسٹور پر «ChatGPT» — ادارہ OpenAI۔ ویب: chatgpt.com



پہلی بار گھبراہٹ ہو تو

پہلے دو دن صرف لکھ کر مشق کیجیے، تیسرے دن آواز آزمائیے۔ یاد رکھیے: سامنے کوئی انسان نہیں — یہ دنیا کی سب سے محفوظ کلاس ہے۔

اے آئی قابل استاد تب بنتا ہے جب آپ اسے بتائیں کہ پڑھانا کیسے ہے۔ یہ کام ایک بار کا ہے: ہر سیشن کے آغاز میں نیچے دیا گیا «ماسٹر پرامپٹ» بھیج دیجیے۔ اس کے بعد اے آئی پورے سیشن میں ایک تربیت یافتہ انگریزی ٹیچر کی طرح برتاؤ کرے گا۔

★ ماسٹر پرامپٹ — ہر سیشن کا پہلا پیغام (جو کاتوں نقل کیجیے)

آپ میرے انگریزی کے استاد ہیں اور میں بالکل ابتدائی سطح کا طالب علم ہوں۔ مجھے انگریزی بولنا سیکھنی ہے۔ ان اصولوں پر پڑھائیں:

- ۱۔ آسان اور چھوٹے انگریزی جملے استعمال کریں، ہر جملے کا اردو ترجمہ ساتھ دیں۔
- ۲۔ جب میں انگریزی میں غلطی کروں تو پہلے میری حوصلہ افزائی کریں، پھر درست جملہ بتائیں اور وجہ آسان اردو میں سمجھائیں۔
- ۳۔ ایک وقت میں صرف ایک سوال پوچھیں اور میرے جواب کا انتظار کریں۔
- ۴۔ ہر سیشن کے آخر میں آج سیکھے ہوئے جملے دہرائیں۔

کیا آپ تیار ہیں؟ آج کا موضوع: _____

خالی جگہ میں اپنا موضوع لکھیے — مثلاً «اپنا تعارف کرانا»، «بازار میں خریداری» یا «فون پر بات کرنا»۔

پہلی مشق: اپنا تعارف — آج ہی آزمائیے

جیمنائی یا چیٹ جی پی ٹی کھولیں اور سادہ سائیبیغام بھیجیے:

1 پہلا قدم — تعارف سیکھنا

میں آج انگریزی میں اپنا تعارف کرنا سیکھ رہا ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے مجھے پانچ آسان جملوں کا نمونہ دو (اردو ترجمے کے ساتھ)، پھر مجھ سے میرا نام، شہر اور کام پوچھ کر میرا اپنا تعارف تیار کرواؤ، اور آخر میں مجھ سے انگریزی میں تعارف سنو اور غلطیاں درست کرو۔

یہی ایک مشق آپ کو سکھا دے گی کہ اے آئی سے سبق کیسے لیا جاتا ہے: نمونہ — اپنی بات — اصلاح۔

آواز کی مشق کے لیے سینٹگ

1. جیمنائی ایپ میں مائیک والے نشان (جیمنائی لائیو) پر، یا چیٹ جی پی ٹی ایپ میں ہیڈ فون کے نشان پر دبائیے۔

2. پہلا جملہ بولیں: "I am learning English. Please speak slowly and use simple words. Correct my mistakes."

— یا اردو میں کہیے «میں انگریزی سیکھ رہا ہوں، آہستہ بولیں اور میری غلطیاں درست کریں»۔

3. اب جو موضوع چاہیں اس پر گفتگو کیجیے — اے آئی آپ کی رفتار کے مطابق بولے گا۔

سنہری ترکیب - اردو سہارا، انگریزی منزل

شروع میں ہدایات اردو میں دیجیے اور مشق انگریزی میں کیجیے۔ جیسے جیسے اعتماد بڑھے، اے آئی سے کہیے کہ وہ اردو ترجمہ کم کرتا جائے۔ جیسے سائیکل کے چھچھے کے سہارے آہستہ آہستہ ہٹائے جاتے ہیں۔ چھٹے مفتے تک کوشش کیجیے کہ پورا سیشن صرف انگریزی میں ہو۔

پہلے دن کے عام سوالات

سوال	جواب
کیا اے آئی میرا پاکستانی لہجہ سمجھے گا؟	جی ہاں۔ جدید ماڈلزہر طرح کے لہجے سمجھتے ہیں۔ نہ سمجھے تو آہستہ اور صاف بولیے؛ غلط سمجھے تو دہرا دیجیے، یہ بھی سننے کی اچھی مشق ہے۔
گفتگو کے دوران بات سمجھ نہ آئے تو؟	فوراً کہیے: "Please repeat slowly" یا اردو میں «آہستہ دہرائیں»۔ رکنا اور پوچھنا کمزوری نہیں، سیکھنے والے کی نشانی ہے۔
مفت ورژن کی حد ختم ہو جائے تو؟	دوسرے ٹول پر چلے جائیے (جیمنائی)۔ چیٹ جی پی ٹی۔ کلاڈ یا اگلے دن جاری رکھیے۔ نصاب کسی ایک کمپنی کا محتاج نہیں۔
کیا پرانی گفتگو محفوظ رہتی ہے؟	جی ہاں، ایپ میں پچھلی گفتگو موجود رہتی ہے۔ ہفتہ وار امتحان (باب ۵، کارڈ ۲۳) کے لیے اسی گفتگو میں واپس جائیے جس میں سبق لیا تھا۔


سیکھنے کا طریقہ: روزانہ بیس منٹ کا چکر

04

زبان سیکھنے کی تحقیق کا خلاصہ تین لفظ ہیں: سنیے، بولیں، دہرائیں۔ یہ باب اس اصول کو بیس منٹ کے روزانہ معمول میں ڈھالتا ہے۔

EXHIBIT 1

روزانہ بیس منٹ — چار قدموں کا چکر



یہی چکر روز دہرایا جائے تو مہینے میں تقریباً ڈیڑھ سو جملے بختہ ہو جاتے ہیں۔ بنیادی گفتگو کے لیے کافی ذخیرہ۔

پانچ آزمودہ طریقے جو اے آئی کے ساتھ کمال کرتے ہیں

کیوں مؤثر ہے؟	کیسے کریں؟	طریقہ
حقیقی زندگی کی صورت حال کا بے خطر ریہرسل — اصل موقع پر زبان خود نکلتی ہے	اے آئی کو دکاندار، ڈاکٹریا انٹرویو لینے والا بنائیں اور منظر کے مطابق گفتگو لیجیے	کردار کی مشق Role-play
زبان اور کان ایک ساتھ تربیت پاتے ہیں: تلفظ تیزی سے سدھرتا ہے	اے آئی کا بولا ہوا جملہ سنتے ہی فوراً ہو دہرائیں — لہجہ اور رفتار سمیت	سایہ مشق Shadowing
جو بات آپ سکھا سکتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتی	آج سیکھا ہوا سبق اے آئی کو انگریزی میں «پڑھا کر» سنائیے: وہ آپ کی وضاحت جانچے گا	الٹا سبق Teach-back
بھولنے سے عین پہلے دہرائی یا دواشت کو پختہ کرتی ہے	ہر اتوار اے آئی سے کہیں: «اس مفتی کے سب جملوں کا ٹیسٹ لو»	وقف سے دہرائی Spaced review
اردو سے ترجمے کی عادت ٹوٹی ہے — روانی کی اصل کنجی	دن میں ایک بار جو کچھ کر رہے ہوں اسے دل میں آسان انگریزی میں کہیں: "I am drinking tea."	سوچ کی مشق Think in English

بیس منٹ کہاں سے نکالیں؟

صبح ناشتے کے بعد دس منٹ (نئے جملے اور دہرائی) اور رات سونے سے پہلے دس منٹ (گفتگو اور اصلاح)۔ موبائل میں دونوں وقت کے الارم لگا لیجیے اور مشق کو چائے جیسی عادت بنا لیجیے — ارادے بھول جاتے ہیں، عادتیں نہیں بھولتیں۔

پرامپٹس کی لائبریری: ۲۳ تیار نسخے، چھ زمروں میں

05

یہ باب اس کتاب کا دل ہے۔ ہر کارڈ ایک مکمل سبق کا نسخہ ہے۔ جوں کا توں اے آئی کو بھیجیے اور مشق شروع کر دیجیے۔ ہر نسخہ اردو میں ہے تاکہ پہلے دن سے استعمال ہو سکے۔ (کارڈ ۱ - تعارف - باب ۳ میں گزر چکا ہے۔)

زمروہ ۱: بنیادی مشقیں 1-4 FOUNDATIONS · CARDS

2 روزمرہ کے دس جملے

مجھے روزمرہ زندگی کے دس آسان انگریزی جملے سکھائیں۔ موضوع: گھر کی صبح (اٹھنا، ناشتہ، تیار ہونا)۔ ہر جملے کا اردو ترجمہ اور بولنے کا طریقہ لکھیں۔ پھر مجھ سے ہر جملہ پوچھ کر یاد کروائیں۔

موضوع روز بدلیے: بازار، دفتر، مہمان، سفر، کھانا، موسم، فون۔ ساٹھ دن کے لیے کافی موضوعات ہیں۔

3 گنتی، وقت اور تاریخ

مجھے انگریزی میں وقت اور تاریخ بتانا سکھائیں: پہلے گھڑی کے پانچ نمونہ جملے (ساڑھے، پونے، سوا سمیت)، پھر دنوں اور مہینوں کے نام، پھر مجھ سے مختلف وقت اور تاریخیں پوچھ کر مشق کروائیں۔ ہر جواب کی اصلاح کریں۔

قیمت، فون نمبر اور عمر بتانے کی مشق بھی اسی طرز پر کروائیے۔ روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ یہی کام آتے ہیں۔

4 سوال پوچھنا سیکھیے

آج مجھے انگریزی میں سوال پوچھنا سکھائیں۔ What, Where, When, Who, Why, How سے شروع ہونے والے دو دو آسان سوال بنا کر دکھائیں (اردو ترجمے کے ساتھ)، پھر کوئی منظر دے کر مجھ سے سوال بنوائیں اور اصلاح کریں۔

گفتگو وہ چلاتا ہے جو سوال پوچھنا جانتا ہے۔ یہ مہارت روانی کا چھپا ہوا دروازہ ہے۔

5 کردار کی مشق - خریداری

آئیے کردار کی مشق کریں۔ آپ کپڑے کی دکان کے دکاندار ہیں اور میں گاہک۔ صرف آسان انگریزی استعمال کریں۔ گفتگو آپ شروع کریں؛ میری ہر غلطی گفتگو کے آخر میں درست کریں؛ بیچ میں نہیں۔

پہلی بار مشکل لگے تو شروع میں لکھ دیجیے: «میں انک جاؤں تو اردو میں اشارہ دے دیں»۔

6 کردار کی مشق - ہوٹل میں کھانا

کردار کی مشق: آپ ریستوران کے ویٹر ہیں، میں گاہک۔ مینیو میں تین کھانے فرض کر لیں۔ آپ گفتگو شروع کریں - سلام، مینیو، آرڈر، قیمت اور شکریہ تک پوری گفتگو کروائیں۔ آسان انگریزی؛ غلطیاں آخر میں۔

یہی منظر «چائے کے ہوٹل» اور «فاسٹ فوڈ» پر بھی دہرائیے۔ ہر بار نئے جملے ہاتھ لگیں گے۔

7 کردار کی مشق - ڈاکٹر کے پاس

کردار کی مشق: آپ ڈاکٹر ہیں، میں مریض۔ مجھے بخار اور گلے میں درد ہے۔ آپ سوال پوچھتے جائیں (کب سے؟ کیسا درد؟)، میں جواب دوں گا۔ آخر میں آپ آسان انگریزی میں مشورہ دیں اور پھر میری غلطیوں کی فہرست بنائیں۔

جسم کے اعضا اور تکلیف کے الفاظ اسی مشق میں خود بخود یاد ہوتے جائیں گے۔

8 کردار کی مشق - راستہ پوچھنا

کردار کی مشق: میں نئے شہر میں مسافر ہوں اور آپ مقامی شخص۔ میں آپ سے بس اسٹاپ، بینک اور ہسپتال کا راستہ پوچھوں گا۔ آپ left, right, straight, near, behind جیسے آسان الفاظ میں راستہ بتائیں؛ پھر کردار بدل کر آپ مجھ سے راستہ پوچھیں۔

کردار بدلنا (پہلے پوچھنے والا، پھر بتانے والا) ایک ہی مشق سے دگنا سبق نکالتا ہے۔

9 الفاظ کا خزانہ - کہانی کے ذریعے

مجھے پانچ نئے انگریزی الفاظ سکھائیں جو دفتر میں کام آتے ہیں۔ ہر لفظ کے لیے: اردو مطلب، ایک آسان انگریزی جملہ، اور اس کا ترجمہ۔ آخر میں پانچوں الفاظ پر مشتمل چار جملوں کی چھوٹی سی کہانی سنائیں، پھر مجھ سے ہر لفظ کا مطلب پوچھیں۔

الفاظ تنہا نہیں، کہانی اور جملوں میں یاد رہتے ہیں۔ روزانہ پانچ الفاظ = مہینے میں ڈیڑھ سو۔

10 گرامر - قاعدہ نہیں، استعمال

مجھے گرامر کی کتابوں والے قاعدے نہ پڑھائیں۔ آج «گزرے ہوئے کل کی بات» (ماضی) کرنے کا طریقہ سکھائیں: پہلے پانچ نمونہ جملے دیں (اردو ترجمے کے ساتھ)، پھر مجھ سے پوچھیں کہ میں نے کل کیا کیا، اور میرے جوابوں کی اصلاح کرتے جائیں۔

یہی طرز ہر گرامر موضوع پر چلے گا: آنے والے کل کی بات (مستقبل)، سوال پوچھنا، انکار کرنا، اجازت مانگنا۔

11 میری ذاتی غلطیوں کا علاج

ہماری اب تک کی گفتگو دیکھ کر میری پانچ سب سے بڑی اور بار بار ہونے والی غلطیاں نکالیں۔ ہر غلطی کے لیے: غلط جملہ، درست جملہ، آسان اردو میں وجہ، اور مشق کے لیے دو نئے جملے جن میں میں وہی چیز درست استعمال کروں۔

نفتے میں ایک بار یہ کارڈ چلائیے۔ یہ آپ کا ذاتی گرامر نصاب خود تیار کرتا رہے گا۔

12 تلفظ کی مشق (آواز والی گفتگو میں)

میں تلفظ کی مشق کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک ایک کر کے پانچ آسان جملے بول کر سنائیں: میں ہر جملہ دہراؤں گا۔ اگر میرا تلفظ غلط ہو تو درست تلفظ نکلے میں توڑ کر سکھائیں اور دوبارہ بلوائیں۔

یہ مشق صرف آواز والے موڈ (جیمنائی لائیو یا چیٹ جی پی ٹی وائس) میں کیجیے۔ یہی اس کا اصل فائدہ ہے۔

13 سایہ مشق – لہجے کی تربیت

(آواز والے موڈ میں) آپ ایک چھوٹا سا جملہ عام رفتار سے بولیں؛ میں فوراً ہو بہو نقل کروں گا۔ لہجہ اور اتار چڑھاؤ سمیت۔ اگر میری نقل کمزور ہو تو وہی جملہ آہستہ بول کر دوبارہ کروائیں۔ روز پانچ جملے، آسان سے مشکل کی طرف۔

سایہ مشق (شیڈونگ) دنیا بھر کے زبان سیکھنے والوں کا آزمودہ نسخہ ہے۔ کان اور زبان ایک ساتھ تیز ہوتے ہیں۔

14 سن کر لکھیے – ڈکٹیشن

(آواز والے موڈ میں) مجھے ڈکٹیشن دیں: ایک آسان جملہ بولیں، میں اسے سن کر لکھوں گا اور پڑھ کر سناؤں گا۔ پھر بتائیں کہ میں نے کیا صحیح سنا اور کیا غلط۔ روز پانچ جملے، ہر غلط جملہ دوبارہ۔

سننے کی کمزوری ہی اکثر «انگریزی تیز لگتی ہے» کی اصل وجہ ہے۔ ڈکٹیشن اس کا سیدھا علاج ہے۔

15 ایک منٹ ٹاک – روانی کی ورزش

مجھے کوئی آسان موضوع دیں (میرا گاؤں، میری پسندیدہ سواری، آج کا موسم)۔ میں اس پر ایک منٹ بغیر کے انگریزی میں بولوں گا۔ غلطیوں کی پروا کیے بغیر۔ آپ صرف سنیں؛ آخر میں تین اچھی باتیں اور تین اصلاحیں بتائیں۔

روانی کی واحد ورزش «بغیر کے بولنا» ہے۔ ہفتہ بہ ہفتہ وقت بڑھائیے: ایک منٹ → دو → تین۔

زمرہ ۵: لکھنے کی مہارت WRITING · CARDS 16-19

16 ترجمے کی ورزش – اردو سے انگریزی

مجھے ایک ایک کر کے پانچ آسان اردو جملے دیں؛ میں ہر جملے کا انگریزی ترجمہ کروں گا۔ میرے ترجمے کی اصلاح کریں اور بتائیں کہ عام بول چال میں یہ بات کیسے کہی جاتی ہے۔ مشکل آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں۔

«کتابی ترجمہ» اور «بول چال» کا فرق یہیں سے سمجھ آتا ہے۔ مثلاً سلام دعا، شکریہ، معذرت کے اصل انداز۔

17 لکھائی کی اصلاح

میں نے انگریزی میں چند جملے لکھے ہیں۔ ان کی غلطیاں درست کریں؛ ہر اصلاح کی وجہ آسان اردو میں بتائیں؛ اور آخر میں بہتر بنایا ہوا پورا متن دوبارہ لکھیں:

[یہاں اپنے جملے لکھیے]

وائس ایپیگم، درخواست یا ای میل۔ جو بھی انگریزی میں لکھنا ہو، پہلے خود لکھیے، پھر اصلاح لیجیے۔ خود لکھے بغیر اصلاح سے کچھ نہیں سیکھا جاتا۔

18 وائس ایپیگم کی انگریزی

مجھے وائس ایپیگم پر کام آنے والے دس مختصر انگریزی بیانات سکھائیں: سلام دعا، حال پوچھنا، معذرت، مبارک باد، ملاقات طے کرنا، دیر کی اطلاع۔ ہر بیانیہ کا اردو مطلب اور رسمی ابے تکلف فرق بتائیں۔ پھر فرضی بیانیہ بھیج کر مجھ سے جواب لکھوائیں۔

یہ سب سے جلد «نظر آنے والا» فائدہ ہے۔ کل ہی سے دوستوں کو انگریزی میں جواب دینا شروع کیجیے۔

19 رسمی ای میل اور درخواست

مجھے رسمی انگریزی ای میل کا سادہ ڈھانچہ سکھائیں (موضوع، سلام، مدعا، اختتام)۔ پھر یہ منظر دیں: «استاد سے چھٹی کی درخواست»۔ پہلے میں خود لکھوں گا، پھر آپ اصلاح کر کے بہتر نمونہ دکھائیں اور فرق سمجھائیں۔

اگلے مناظر: نوکری کی درخواست کے ساتھ مختصر ای میل، شکایت، معلومات طلب کرنا۔

زمرہ و: خاص مقاصد 20-23 SPECIAL GOALS · CARDS

20 نوکری کا انٹرویو

آپ انٹرویو لینے والے افسر ہیں؛ میں سیلز کی نوکری کا امیدوار۔ مجھ سے آسان انگریزی میں پانچ بنیادی سوال پوچھیں (تعارف، تجربہ، خوبیاں، یہ نوکری کیوں، تنخواہ)۔ ہر جواب کے بعد بہتر جواب کا نمونہ دکھائیں۔ آخر میں مجھے انٹرویو کے پانچ سنہری اصول بتائیں۔

اپنی اصل فیلڈ لکھیے۔ درزی، الیکٹریشن، ٹیچر، ڈیلیوری۔ سوال اسی کے مطابق ڈھل جائیں گے۔

21 فری لانسر کی انگریزی — کلائنٹ سے بات

میں فری لانسر ہوں۔ آپ غیر ملکی کلائنٹ بن کر مجھ سے پروجیکٹ پر بات کریں: کام سمجھانا، قیمت طے کرنا، وقت مانگنا، اور مکمل ہونے کی اطلاع۔
میرے بیانات کی اصلاح کریں اور پیشہ ورانہ تبادلہ سکھائیں۔

فائیور اپ ورک کے عام جملے — "Could you clarify"، "I will deliver by Friday"...؟ — اسی مشق سے بہتہ ہوں گے۔

22 دفتر کی میٹنگ اور فون کال

کردار کی مشق: دفتر کی چھوٹی میٹنگ ہے، آپ میرے منبر ہیں۔ مجھ سے کام کی پیش رفت پوچھیں؛ میں بتاؤں گا، ایک مسئلہ بیان کروں گا اور مہلت مانگوں گا۔ پھر یہی گفتگو فون کال کے انداز میں دہرائیں (سلام، مقصد، اختتام)۔ غلطیاں آخر میں۔

دفتری زبان کے بنیادی سانچے — "It will be ready by"، "I am working on..." — یہاں بار بار آئیں گے۔

23 ہفتہ وار امتحان — ہر اتوار

آپ میرے ممتحن ہیں۔ اس گفتگو میں اوپر جو کچھ میں نے اس ہفتے سیکھا، اس کا دس سوالوں کا ٹیسٹ لیں: پانچ سوال اردو سے انگریزی ترجمے کے، تین سوال الفاظ کے مطلب کے، دو چھوٹے گفتگو والے سوال۔ ایک ایک کر کے پوچھیں، آخر میں نمبر دیں اور بتائیں کہ اگلے ہفتے کس چیز پر محنت کروں۔

نمبر ملنے سے ترقی نظر آتی ہے اور نظر آنے والی ترقی ہی تسلسل کا ایندھن ہے۔

جملوں کے سانچے: پندرہ فریم جو آدھی گفتگو چلاتے ہیں

06

روانی کا راز ہزاروں جملے رٹنا نہیں بلکہ چند سانچے پختہ کرنا ہے۔ خالی جگہ بدلے، نیا جملہ تیار۔ ہر سانچے کے ساتھ روز دو نئے جملے بنائیے اور اے آئی سے جانچ کروائیے۔

اردو مفہوم	مثال	سانچہ
میں چاہتا ہوں	I want to learn English.	I want to ___
کیا میں ___ سکتا ہوں؟	Can I ask a question?	Can I ___?
مہربانی فرما کر ___ کر دیں؟	Could you please repeat?	Could you please ___?
___ موجود ہے/ہیں	There is a problem.	There is / There are ___
میں ___ کرنے والا ہوں	I am going to call you.	I am going to ___
مجھے ___ کرنا ہے	I have to go now.	I have to ___
کتنا/ کتنے ___؟	How much is this?	How much / How many ___?
___ کس وقت ہے؟	What time is the meeting?	What time ___?
میرے خیال میں ___	I think it is a good idea.	I think ___
مجھے ___ درکار ہے (مؤدبانہ)	I would like a cup of tea.	I would like ___
مجھے ___ کرنے دیں	Let me check.	Let me ___
میں ___ تلاش کر رہا ہوں	I am looking for a job.	I am looking for ___
کیوں نہ ہم ___ کریں؟	Why don't we start today?	Why don't we ___?
میں پہلے ___ کرتا تھا	I used to live in Multan.	I used to ___
اس کا انحصار ___ پر ہے	It depends on the weather.	It depends on ___

سانچوں کی مشق کا پرامپٹ

«آج کا سانچہ: I want to ___۔ مجھ سے اس سانچے پر درس جملے بنوائیں۔ پانچ میری روزمرہ زندگی سے، پانچ میرے کام سے۔ ہر جملے کی اصلاح کریں۔» — روز ایک سانچہ، پندرہ دن میں پوری فہرست مکمل۔

روزمرہ کے بیس فقرے: آج سے بولنا شروع کیجیے

07

یہ فقرے گفتگو کے «تیار پرزے» ہیں۔ انہیں سوچنا نہیں پڑتا، بس منہ سے نکلنا چاہیے۔ روز چار فقرے بلند آواز سے دس دس بار بولیے۔

فقرہ	کب بولیں	اردو مفہوم
Nice to meet you.	پہلی ملاقات پر	آپ سے مل کر خوشی ہوئی
How are you doing?	حال پوچھنے کے لیے	کیا حال ہے؟
Sorry, I didn't catch that.	بات سمجھ نہ آئے	معذرت، بات سمجھ نہیں آئی
Could you speak slowly?	تیز بولنے والے سے	ذرا آہستہ بولیے
That sounds great!	پسندیدگی پر	بہت خوب!
No problem.	شکریے یا معذرت کے جواب میں	کوئی بات نہیں
Just a moment, please.	وقت چاہیے ہو	ایک لمحہ ٹھہریے
I'm on my way.	روانہ ہو چکے ہوں	میں راستے میں ہوں
Thank you so much.	گہرے شکریے کے لیے	بہت بہت شکریہ
You're welcome.	شکریے کے جواب میں	کوئی بات نہیں / خوش آمدید
Excuse me.	توجہ چاہیے یا راستہ مانگنا ہو	سنیے / اجازت
I'm not sure.	یقین نہ ہو	مجھے یقین نہیں
What do you mean?	وضاحت چاہیے ہو	آپ کا کیا مطلب ہے؟
As soon as possible.	جلدی کا کام ہو	جتنا جلد ممکن ہو
I'll let you know.	بعد میں بتانا ہو	میں آپ کو بتا دوں گا
Take your time.	دوسرے کو مہلت دینے کے لیے	آرام سے، جلدی نہیں
Let me think about it.	فیصلے سے پہلے	مجھے سوچنے دیں
Have a nice day!	رخصت ہوتے وقت	آپ کا دن اچھا گزرے
See you tomorrow.	اگلے دن ملنا ہو	کل ملتے ہیں
Good luck!	دعا دینے کے لیے	اللہ کامیابی دے!

یہ منصوبہ روزانہ بیس منٹ کے چکر (باب ۳) اور پرامپٹ لائبریری (باب ۵) کو آٹھ ہفتوں کی سیڑھی میں ترتیب دیتا ہے۔ ہر مفتی کا ہدف پچھلے پر کھڑا ہے۔ قدم نہ چھوڑیے۔

EXHIBIT 2

آٹھ ہفتوں کی سیڑھی۔ ہر مفتی کا ہدف اور مشق

مفتی	ہدف	روزانہ مشق (کون سے پرامپٹ کارڈ)	کامیابی کی نشانی
۲-۱	تعارف اور روزمرہ جملے	کارڈ ۱ تا ۴ — تعارف، روزمرہ جملے، گنتی اور وقت؛ ہر جملہ بلند آواز سے تین بار	بغیر دیکھے ایک منٹ کا اپنا تعارف
۳-۳	سوال جواب اور الفاظ	کارڈ ۹ تا ۱۱ — روز پانچ الفاظ؛ گرامر بذریعہ استعمال؛ اپنی غلطیوں کا علاج	اے آئی کے دس سوالوں کے رواں جواب
۵-۶	حقیقی مناظر کی مشق	کارڈ ۵ تا ۸ اور ۱۲ — روز ایک کردار کی مشق (دکان، ہوٹل، ڈاکٹر، راستہ)؛ آواز والی گفتگو لازمی	پانچ منٹ کی مسلسل گفتگو صرف انگریزی میں
۷-۸	روانی اور خود اعتمادی	کارڈ ۱۳ تا ۲۲ — سایہ مشق، ایک منٹ ٹاک، واٹس ایپ اور ای میل؛ اردو سہارا کم سے کم	کسی حقیقی شخص سے انگریزی میں مختصر بات

ہر اتوار: مشق نہیں — صرف کارڈ ۲۳ کا ہفتہ وار امتحان اور پرانے جملوں کی دہرائی۔

ساٹھ دن میں روائی نہیں آتی — بنیاد آتی ہے: تقریباً تین سو پختہ جملے، بنیادی گرامر کا عملی استعمال اور سب سے قیمتی چیز: بولنے کی جھجک کا خاتمہ۔

اکسٹھواں دن اور آگے

ساٹھ دن مکمل ہوں تو اے آئی سے کہیے: «میری اب تک کی گفتگو دیکھ کر بتاؤ کہ میری کمزوریاں کیا ہیں اور اگلے دو مہینے کا منصوبہ بناؤ»۔ ساتھ ہی حقیقی دنیا میں قدم رکھیے: انگریزی خبریں یا کارٹون دیکھیے اور جو سمجھ نہ آئے اے آئی سے پوچھیے؛ واٹس ایپ پر کسی دوست سے انگریزی میں پیغام کا تبادلہ کیجیے؛ اور موقع ملے تو انگریزی بولنے والوں کی محفل میں ایک جملہ ضرور بولیے۔ اے آئی نے آپ کو جو رہنمائی کرانی ہے، اب اس کا اسٹیج یہی ہے۔

مفت وسائل اور لنکس: اے آئی سے آگے کی دنیا

09

اے آئی آپ کا استاد ہے، مگر زبان کے لیے کان اور آنکھ کو بھی خوراک چاہیے۔ یہ سب وسائل مفت ہیں اور پاکستان میں دستیاب ہیں۔

اے آئی استاد — آپ کی روزانہ کلاس

ٹول	لنک	اس کتاب میں استعمال
جیمنائی	gemini.google.com	آواز والی گفتگو (جیمنائی لائیو) — بولنے کی مشق کا بنیادی ٹول
چیٹ جی پی ٹی	chatgpt.com	وائس موڈ اور تحریری مشقیں — متبادل استاد
کلاڈ	claude.ai	لکھائی کی اصلاح اور تفصیلی وضاحتیں

سننے اور پڑھنے کی خوراک — روز دس منٹ اضافی

وسیلہ	لنک	کیا ملے گا
بی بی سی لرننگ انگلش	bbc.co.uk/learningenglish	سطح وار اسباق، آڈیو اور ویڈیو — معتبر مفت نصاب
وی او اے لرننگ انگلش	learningenglish.voanews.com	آہستہ رفتار کی خبریں — سننے کی بہترین ابتدائی مشق
آکسفورڈ لرنرز ڈکشنری	oxfordlearnersdictionaries.com	ہر لفظ کا تلفظ سننے اور آسان تعریف پڑھیے
یوگلیش	youglish.com	کوئی بھی لفظ لکھیے — حقیقی ویڈیوز میں اس کا تلفظ سننے
ڈونولنگو	duolingo.com	کھیل کے انداز میں روز پانچ منٹ کی اضافی مشق
ڈیجی سکلز (حکومت پاکستان)	digiskills.pk	فری لانسنگ اور ڈیجیٹل ہنر کے مفت کورس — انگریزی کو کمائی سے جوڑیے

یوٹیوب کا درست استعمال

یوٹیوب پر «English speaking practice for beginners» تلاش کیجیے اور جو ویڈیو پسند آئے اس کے جملے اے آئی کے ساتھ سایہ مشق (کارڈ ۱۳) میں دہرائیے۔ ویڈیو دیکھنا مشق نہیں — دہرانا مشق ہے۔

نوٹ

لنکس وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں؛ کوئی لنک نہ کھلے تو نام لکھ کر تلاش کر لیجیے۔ کسی ایپ میں ادائیگی کی ضرورت نہیں — یہ پورا نصاب مفت وسائل پر مکمل ہوتا ہے۔

برسوں انگریزی پڑھ کر بھی نہ بول پانے کی وجوہات تقریباً سب کی ایک جیسی ہیں۔ انہیں پہچان لیجیے تو آدھا علاج ہو گیا۔

غلطی	علاج
پہلے گرامر مکمل کرنے کا انتظار	گرامر سمندر ہے، کبھی «مکمل» نہیں ہوتی۔ پہلے دن سے بولیں؛ گرامر استعمال کے راستے خود آئے گی۔ جیسے اردو بولتے ہوئے آئی تھی، قاعدے رٹے بغیر۔
اردو میں سوچ کر لفظ بہ لفظ ترجمہ	جملے کے سانچے (patterns) یاد کیجیے، الفاظ نہیں: "I want to...", "Can you...?", "There is..." — سانچہ بختہ ہو تو نئی بات اس میں ڈھل جاتی ہے۔
صرف پڑھنا اور سننا، بولنا کبھی نہیں	پڑھنے سننے سے زبان «سمجھ» آتی ہے، «بولنی» صرف بولنے سے آتی ہے۔ ہر سبق میں آواز کی مشق لازمی رکھیے — اسی لیے اس کتاب کے ہر کارڈ میں بولنے کا حصہ موجود ہے۔
مشکل الفاظ کا شوق	روانی ہزار مشکل الفاظ سے نہیں، پانچ سو آسان الفاظ کے تیز استعمال سے آتی ہے۔ پہلے روزمرہ کے الفاظ بختہ کیجیے۔
بے ترتیب مشق — کبھی دو گھنٹے، پھر دس دن غائب	دماغ تسلسل سے سیکھتا ہے۔ بیس منٹ روزانہ، چاہے تھکے ہوں۔ ناغہ ہو جائے تو خود کو ملامت کیے بغیر اگلے دن واپس آجائیے۔ ایک ناغہ شکست نہیں، رک جانا شکست ہے۔
اے آئی سے کام کروانا، سیکھنا نہیں	«یہ ای میل انگریزی میں لکھ دو» سے کام چلتا ہے، زبان نہیں آتی۔ پہلے خود لکھیے یا بولیے، پھر اصلاح لیجیے — محنت آپ کی، اصلاح اے آئی کی۔

ایک ضروری احتیاط

اے آئی کبھی کبھار غلطی بھی کرتا ہے۔ کوئی ترجمہ یا قاعدہ عجیب لگے تو اسی سے پوچھیے «کیا تم نے درست کہا؟ دوبارہ جانچو» یا دوسرے اے آئی سے تصدیق کر لیجیے۔ نیز اپنی نجی معلومات (شناختی نمبر، پتا، بینک تفصیل) مشق کے جملوں میں بھی نہ لکھیے۔ فرضی نام اور تفصیل استعمال کیجیے۔

عادت پکی کرنے کی چار ترکیبیں

- وقت اور جگہ مقرر کیجیے: « صبح جانے کے بعد، اسی کرسی پر » — دماغ جگہ اور وقت سے عادت جوڑتا ہے۔
- زنجیر مت توڑیے: کیلنڈر پر ہر مشق والے دن نشان لگائیے؛ لگاتار نشانوں کی قطار خود آپ کو کیسنے گی۔
- ترقی ریکارڈ کیجیے: پہلے دن اپنا ایک منٹ کا تعارف ریکارڈ کیجیے؛ ہر مہینے نیا ریکارڈ بنا کر پرانے سے ملائیے — فرق سن کر حوصلہ خود بڑھے گا۔
- کسی کو بتا دیجیے: گھر میں اعلان کر دیجیے کہ آپ ساٹھ دن کا چیلنج کر رہے ہیں — وعدہ نبھانے کا دباؤ کام آتا ہے۔

آخری بات

انگریزی کوئی امتحان نہیں جو پاس کرنا ہے؛ یہ ایک دروازہ ہے۔ بہتر نوکری، آن لائن کمائی، اعلیٰ تعلیم اور دنیا بھر کے علم کی طرف۔ پچھلی نسلوں کے پاس یہ دروازہ کھولنے کے لیے مہنگی ایکڑمیاں تھیں یا کچھ بھی نہیں؛ آپ کے پاس جیب میں ایک ایسا استاد ہے جو دن رات حاضر ہے، کبھی نہیں تھکتا اور کچھ نہیں مانگتا۔ اب کی صرف ایک چیز کی ہو سکتی ہے: آپ کے یس منٹ۔ آج کا سبق ابھی شروع کیجیے — پہلا پیغام اس کتاب کے پہلے کارڈ میں لکھا رکھا ہے۔

آج ہی کی فہرست — پانچ منٹ کا آغاز

- جیمنائی یا چیٹ جی پی ٹی کی ایپ کھولی؟
- ماسٹر پرامپٹ (باب ۳) بھیجا؟
- پہلی مشق — انگریزی میں اپنا تعارف — مکمل کی؟
- کل کے لیے یس منٹ کا الارم لگایا؟
- کیلنڈر پر آج کا پہلا نشان لگایا؟



Urdu Ai

آپ کا استاد انتظار میں ہے — ساٹھ دن بعد کا «آپ» آج کے فیصلے کا شکر گزار ہوگا۔

آسان اردو میں مصنوعی ذہانت کو سمجھنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم

URDUAI.ORG

ساٹھ دن کا قابل پرنٹ ٹریکر

ضمیمہ

یہ صفحات پرنٹ کر کے فریج یا میز پر لگائیے۔ ہر شام صرف ایک منٹ: تاریخ لکھیے، مشق کے خانے پر نشان لگائیے، آج کا بہترین جملہ لکھیے اور اپنے اعتماد کو ۱ تا ۵ نمبر دیجیے۔ ہر اتوار کارڈ ۲۳ سے ٹیسٹ لے کر سکور درج کیجیے۔ اصول ایک ہی ہے: زنجیر مت توڑیے۔

ہفتہ ۱ - تعارف اور پہلے جملے WEEK 1 • CARDS 1-2					
اعتماد ۱-۵	آج کا بہترین جملہ	کارڈ نمبر	مشق ہوئی	تاریخ	دن
			<input type="checkbox"/>		1
			<input type="checkbox"/>		2
			<input type="checkbox"/>		3
			<input type="checkbox"/>		4
			<input type="checkbox"/>		5
			<input type="checkbox"/>		6
			<input type="checkbox"/>		7

اتوار کا ٹیسٹ سکور: _____ 10 اس ہفتے کا یادگار لمحہ: _____

ہفتہ ۲ - روزمرہ جملے، گنتی اور وقت WEEK 2 • CARDS 2-4					
اعتماد ۱-۵	آج کا بہترین جملہ	کارڈ نمبر	مشق ہوئی	تاریخ	دن
			<input type="checkbox"/>		8
			<input type="checkbox"/>		9
			<input type="checkbox"/>		10
			<input type="checkbox"/>		11
			<input type="checkbox"/>		12
			<input type="checkbox"/>		13
			<input type="checkbox"/>		14

اتوار کا ٹیسٹ سکور: _____ 10 اس ہفتے کا یادگار لمحہ: _____

ہفتہ ۳ — الفاظ کا خزانہ اور سوال پوچھنا 9, 4, 3 WEEK

اعتماد ۱-۵	آج کا بہترین جملہ	کارڈ نمبر	مشق ہوئی	تاریخ	دن
			<input type="checkbox"/>		15
			<input type="checkbox"/>		16
			<input type="checkbox"/>		17
			<input type="checkbox"/>		18
			<input type="checkbox"/>		19
			<input type="checkbox"/>		20
			<input type="checkbox"/>		21

اتوار کا ٹیسٹ سکور: _____ اس ہفتے کا یادگار لمحہ: _____

ہفتہ ۴ — گرام — قاعدہ نہیں، استعمال 11-10, 4 WEEK

اعتماد ۱-۵	آج کا بہترین جملہ	کارڈ نمبر	مشق ہوئی	تاریخ	دن
			<input type="checkbox"/>		22
			<input type="checkbox"/>		23
			<input type="checkbox"/>		24
			<input type="checkbox"/>		25
			<input type="checkbox"/>		26
			<input type="checkbox"/>		27
			<input type="checkbox"/>		28

اتوار کا ٹیسٹ سکور: _____ اس ہفتے کا یادگار لمحہ: _____

ہفتہ ۵ – کردار کی مشقیں: دکان، ہوٹل، ڈاکٹر 5-8 CARDS WEEK 5

اعتماد ۱-۵	آج کا بہترین جملہ	کارڈ نمبر	مشق ہوئی	تاریخ	دن
			<input type="checkbox"/>		29
			<input type="checkbox"/>		30
			<input type="checkbox"/>		31
			<input type="checkbox"/>		32
			<input type="checkbox"/>		33
			<input type="checkbox"/>		34
			<input type="checkbox"/>		35

اتوار کا ٹیسٹ سکور: _____ اس 10 منٹے کا یادگار لمحہ: _____

ہفتہ ۶ – آواز پر زور: تلفظ، سایہ مشق، ڈکٹیشن 12-14 CARDS WEEK 6

اعتماد ۱-۵	آج کا بہترین جملہ	کارڈ نمبر	مشق ہوئی	تاریخ	دن
			<input type="checkbox"/>		36
			<input type="checkbox"/>		37
			<input type="checkbox"/>		38
			<input type="checkbox"/>		39
			<input type="checkbox"/>		40
			<input type="checkbox"/>		41
			<input type="checkbox"/>		42

اتوار کا ٹیسٹ سکور: _____ اس 10 منٹے کا یادگار لمحہ: _____

ہفتہ ۷ — روائی اور لکھنے کی مہارت WEEK 7 · CARDS 15-19

اعتماد ۱-۵	آج کا بہترین جملہ	کارڈ نمبر	مشق ہوئی	تاریخ	دن
			<input type="checkbox"/>		43
			<input type="checkbox"/>		44
			<input type="checkbox"/>		45
			<input type="checkbox"/>		46
			<input type="checkbox"/>		47
			<input type="checkbox"/>		48
			<input type="checkbox"/>		49

اتوار کا ٹیسٹ سکور: _____ اس 10 منٹے کا یادگار لمحہ: _____

ہفتہ ۸ — خاص مقاصد اور آزاد گفتگو WEEK 8 · CARDS 20-22

اعتماد ۱-۵	آج کا بہترین جملہ	کارڈ نمبر	مشق ہوئی	تاریخ	دن
			<input type="checkbox"/>		50
			<input type="checkbox"/>		51
			<input type="checkbox"/>		52
			<input type="checkbox"/>		53
			<input type="checkbox"/>		54
			<input type="checkbox"/>		55
			<input type="checkbox"/>		56

اتوار کا ٹیسٹ سکور: _____ اس 10 منٹے کا یادگار لمحہ: _____

پیش رفت نامہ - اپنی ترقی خود ناپیے

ضمیمہ

آواز کاریکارڈ - ترقی سننے کا آئینہ

موبائل کے ریکارڈ میں ایک منٹ کا اپنا انگریزی تعارف ریکارڈ کیجیے - تین بار، تین موقعوں پر - پرانی ریکارڈنگ سن کر فرق خود محسوس کیجیے۔

موقع	تاریخ	ریکارڈ کیا	سن کر کیا محسوس ہوا؟
دن ۱		<input type="checkbox"/>	
دن ۳۰		<input type="checkbox"/>	
دن ۶۰		<input type="checkbox"/>	

مہارت کی فہرست - جو آجائے اس پر نشان

<input type="checkbox"/>	ایک منٹ کا اپنا تعارف بغیر رکے	<input type="checkbox"/>	وقت، تاریخ اور قیمت بتانا
<input type="checkbox"/>	دکان پر خریداری کی مکمل گفتگو	<input type="checkbox"/>	راستہ پوچھنا اور بتانا
<input type="checkbox"/>	فون پر مختصر بات	<input type="checkbox"/>	وائس ایپ پر انگریزی جواب
<input type="checkbox"/>	رسمی ای میل یا درخواست	<input type="checkbox"/>	پانچ منٹ کی آزاد گفتگو اے آئی سے
<input type="checkbox"/>	دس سوال روانی سے پوچھنا	<input type="checkbox"/>	کسی حقیقی شخص سے انگریزی میں بات

دن ۵۷ تا ۶۰ - اختتامی مرحلہ

دن	کام	مکمل
57	پورے نصاب کی دہرائی - اے آئی سے کہیے: «میرے آٹھ ہفتوں کے کمزور موضوعات کا مختصر ریویو سیشن لو»	<input type="checkbox"/>
58	بڑا امتحان - کارڈ ۲۳ سے بیس سوالوں کا مکمل ٹیسٹ: سکور _____ / 20	<input type="checkbox"/>
59	دن ۶۰ کی ریکارڈنگ + دن ۱ کی ریکارڈنگ سے موازنہ	<input type="checkbox"/>
60	جشن! کسی حقیقی شخص سے انگریزی میں بات کیجیے اور اگلا ہدف لکھیے: _____	<input type="checkbox"/>

میرا اگلے دو مہینے کا ہدف



Urdu Ai

سندِ تکمیل

CERTIFICATE OF COMPLETION — 60-DAY ENGLISH CHALLENGE

تصدیق کی جاتی ہے کہ

نے «اے آئی کے ساتھ انگریزی بولنا سیکھیے» کا ساٹھ روزہ چیلنج
روزانہ مشق، ہفتہ وار امتحانات اور مکمل نصاب کے ساتھ کامیابی سے مکمل کیا۔

دستخط (خود اپنے!)

تاریخ تکمیل

تاریخ آغاز

آسان اردو میں مصنوعی ذہانت کو سمجھنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم

URDUAI.ORG

اردو اے آئی سے جڑے رہیے

سیکھنے کا سفر تہمتا کیجیے۔ اردو اے آئی پر ہر مفتے نئے اسباق، تیار پرامپٹس اور مصنوعی ذہانت کی تازہ خبریں آسان اردو میں ملتی ہیں۔ ہمارے تمام پلیٹ فارمز پر ہینڈل ایک ہی ہے: urduai.org

وائس ایپ چینل



کیرہ کھولے، کوڈ سکین کیجیے
اور چینل فالو کر لیجیے۔
ہر نیا سبق سیدھا آپ کے موبائل پر

ویب سائٹ — ہر گائیڈ اور سبق کا گھر

urduai.org

یوٹیوب — ویڈیو اسباق اور ٹیوٹوریلز

youtube.com/@urduaiorg

فیس بک — کیونٹی اور روزانہ کی پوسٹس

facebook.com/urduaiorg

انسٹاگرام — مختصر اسباق اور پوسٹس

instagram.com/urduaiorg

ٹک ٹاک — ایک منٹ میں ایک سبق

tiktok.com/@urduaiorg

ایکس (ٹوئٹر) — اے آئی کی تازہ خبریں

x.com/urduaiorg

Urdu Ai

آسان اردو میں مصنوعی ذہانت کو سمجھنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم

URDUAI.ORG • @URDUAIORG